



## پی سی بی کا آئین 2019 نافذ العمل ہوگیا

- پرانے سے نئے آئین میں عبوری انتظامات آئین کی شق نمبر 49 میں مقرر کیے گئے ہیں

### [PCB Constitution 2019](#)

لاہور، 21 اگست 2019ء:

پاکستان کرکٹ بورڈ کو وزارت بین الصوبائی رابطہ کی جانب سے نوٹیفکیشن موصول ہوگیا ہے۔ جس کے مطابق کابینہ ڈویژن نے پاکستان کرکٹ بورڈ کے آئین 2019 کی منظوری دے دی ہے۔ پی سی بی کا نیا آئین 19 اگست 2019 سے نافذ العمل ہے۔

**پی سی بی کے نئے آئین کے اہم نکات مندرجہ ذیل ہیں:**

شق نمبر 49 ایک کے مطابق موجودہ بی او جی ایک مخصوص مدت تک کام جاری رکھے گا، جب تک کے 7 ممبران (جن میں 3 کرکٹ ایسوسی ایشن اور 4 آزاد ڈائریکٹرز شامل ہیں) میں سے 4 اراکین کو شامل نہیں کر لیا جاتا۔

**نئے آئین کے مطابق بورڈ آف گورنرز ان اراکین پر مشتمل ہوگا:**

- 3 کرکٹ ایسوسی ایشن کے صدور ( روٹیشن پالیسی کا اعلان جلد کر دیا جائے گا)
- پیٹرن کی جانب سے 2 نامزد اراکین
- 4 آزاد ڈائریکٹرز جن میں 1 خاتون کا ہونا لازمی ہوگا
- چیف ایگزیکٹو پاکستان کرکٹ بورڈ
- وزارت بین الصوبائی رابطہ کے وفاقی سیکرٹری بطور غیر فعال رکن (ووٹنگ کاحق نہیں ہوگا)

نئے آئین میں 16 ریجنل کرکٹ ایسوسی ایشنز کو 6 کرکٹ ایسوسی ایشنز میں تبدیل

کردیا گیا ہے، جن کے نام مندرجہ ذیل ہیں:

- بلوچستان کرکٹ ایسوسی ایشن
- سنٹرل پنجاب کرکٹ ایسوسی ایشن
- خیبر پختون خواہ کرکٹ ایسوسی ایشن
- ناردرن کرکٹ ایسوسی ایشن
- سندھ کرکٹ ایسوسی ایشن
- سدرن پنجاب کرکٹ ایسوسی ایشن

نئے آئین میں ڈسٹرکٹ کرکٹ ایسوسی ایشنز کو سٹی کرکٹ ایسوسی ایشنز سے تبدیل کردیا جائے گا۔

سٹی کرکٹ ایسوسی ایشنز اور کرکٹ ایسوسی ایشنز دونوں اپنے اپنے ماڈل آئین کے تحت کام کریں گے۔ تمام ماڈل آئین پی سی بی بورڈ آف گورنرز کی جانب سے منظور شدہ ہوں گے۔ سٹی کرکٹ ایسوسی ایشنز کو قوانین پر عمل پیرا ہونے اور گورننس کے لیے کرکٹ ایسوسی ایشن کی صورت میں فورم فراہم کیا گیا ہے۔

**پی سی بی جنرل باڈی 11 اراکین پر مشتمل ہوگی:**

- چیرمین پی سی بی
- تمام کرکٹ ایسوسی ایشن کے صدور
- صدر بلائینڈ کرکٹ کونسل
- صدر ڈیف اینڈ ڈمب کرکٹ ایسوسی ایشن
- پی سی بی کے چیف ایگزیکٹو اور چیف آپریٹنگ آفیسر غیر فعال اراکین ہوں گے (ووٹنگ کاحق نہیں ہوگا)

نئے آئین کے بعد چیرمین پی سی بی اور چیف ایگزیکٹو کے اختیارات علیحدہ کردیئے گئے ہیں۔ منیجنگ ڈائریکٹر اب بطور چیف ایگزیکٹو کام کریں گے۔

پی سی بی کے گورننس اسٹرکچر کی مضبوطی کے لیے شق نمبر 12 سی کا اضافہ کیا گیا ہے جس کے لیے بورڈ کو کارپوریٹ گورننس کے بہترین طریقوں کو نافذ کرنے کی ضرورت ہے جو بورڈ میں اخلاقی ثقافت کو فروغ دیتے ہیں۔ شق نمبر 12 ایچ کے تحت نو مینیشنز، ایچ آر اور ریمونریشن اور رسک منیجمنٹ کمیٹیوں کو متعارف کروایا گیا ہے۔

پرانے سے نئے آئین میں عبوری انتظامات آئین کی شق نمبر 49 میں مقرر کیے گئے ہیں۔

– ENDS –

Media contact:

**Ibrahim Badees Muhammad**

Editor – Urdu Content

Media and Communications

E: [ibrahim.badees@pcb.com.pk](mailto:ibrahim.badees@pcb.com.pk)

M: +92 (0) 345 474 3486

W: [www.pcb.com.pk](http://www.pcb.com.pk)

**ABOUT THE PCB**

The Pakistan Cricket Board (PCB) is the sole governing body for the game of cricket in Pakistan. Its goal is to work in partnership with its stakeholders to promote, develop and grow the game throughout the country.

The PCB's purpose is to maintain and enhance the reputation and integrity of the game, fostering excellence and upholding the spirit of the game. The PCB selects junior and senior national men's and women's cricket teams to represent the country on the global stage, runs high performance cricket centres across the country and plans and organises domestic competitions and international bi-lateral series.

The PCB is committed to developing ground and facility infrastructure, monitoring the implementation of playing codes and regulations, and supporting the game at every level through its high quality training provision for officials and coaches.

**Commercial Partners**



www.pcb.com.pk  
@therealpcb  
@PakistanCricketBoard  
@PakistanCricketOfficial  
@therealpcb

**PCB Headquarters**  
Gaddafi Stadium  
Ferozpur Road, Lahore  
Pakistan, PO Box 54000  
T: +92 42 3571 7231-4

